

اسلام آباد، 18 نومبر 2011: ٹیٹھیان کا پر کمپنی (ٹی سی سی) نے حکومت بلوچستان کی طرف سے ریکوڈک کے تاجے اور سونے کے قدرتی ذخائر پر کام کرنے کے لئے کان کنی کے دی جانے والی درخواست کے مسترد کئے جانے کے فیصلے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی سی سی نے اگست 2010ء میں فزیبلٹی اسٹڈی جمع کرانے کے بعد فروری 2010ء میں EL5 ایریا کے لئے کان کنی کا لائسنس لینے کے لئے درخواست جمع کرائی تھی۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے مسئلے کے حل کے لئے ملاقات کی متعدد درخواستوں کا خاطر خواہ جواب نہ دیا جبکہ ٹی سی سی نے مسئلے کے حل کیلئے مزا کرات کی راہ اپنانے کو ترجیح دی ہے۔ رجیکشن نوٹس میں نہ تو ٹی سی سی کی طرف سے جواب دائر کی گئی تفصیلات پر بات کی گئی ہے اور نہ اس میں 21 ستمبر کے نوٹس میں بیان شدہ موقف کا جواب دیا گیا ہے۔ لائسنسنگ اتھارٹی کی طرف سے مانگ لائسنس جاری کرنے سے انکار سے نہ صرف یہ کہ TCC اپنے حق سے محروم ہو گئی ہے بلکہ اس سے بلوچستان منرل رولز 2002ء، چاغی ہلز، ایکسلوریشن، جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ CHEJVA اور پاکستانی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ٹی سی سی کو پختہ یقین ہے کہ ریکوڈک پراجیکٹ سے بلوچستان کی کان کنی کی صنعت کو جدید اور شفاف بنانے میں مدد ملے گی اور بیرونی سرمایہ کاری سے مقامی اور پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور 56 سال تک ریونیو حاصل ہوگا، ٹی سی سی کے سی ای او ٹم لائیو سے نے کہا ہے کہ ہم یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سب کام آج تک بلوچستان منرل رولز 2002 کے دائرے کے اندر ہیں اور ہم اس پر صوبائی حکومت سے بات چیت کے مواقع کا خیر مقدم کریں گے۔ اس نوعیت کے منصوبے سے ممکنہ طور پر پرکان کنی کے شعبے میں بہتر آغاز ہو سکتا ہے اور قدرتی ذخائر تلاش اور کان کنی کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے۔ ٹیٹھیان ریکوڈک کان پر کام کرتے ہوئے ماحولیات، لیبر، صحت اور سیفٹی کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کے اصولوں پر کار بند ہے۔